

# Dan

## Chapter 10

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

שָׁמוֹ	נִקְרָא	אֶשֶׁר-	לְדָנְיָאֵל	נִגְלָה	דְּרַב-	פָּרֹס	מֶלֶךְ	לְכוֹרֶשׁ	שָׁלוֹשׁ	בְּשָׁנָה	1
نام	پکارا-گیا-تھا	جس-کا	دانی-ایل-پر	ظاہر-کیا-گیا	کلام	فارس-کے	بادشاہ	خوردس-کے	تین	سال-میں	
<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7121</a>		<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H6539</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3566</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H8141</a>	
	לֹא	וּבִינָה	הַדְּבָר	אֶת-	וּבֵין	נְדוּל	וְצָבָא	הַדְּבָר	וְאִמָּת	בִּלְשָׁאָצָר	
	اُسے	اور-سمجھ	کلام	کو	اور-سمجھا	بڑا	اور-لشکر	کلام	اور-سچ	بیلشضر	
	<a href="#">H4758</a>	<a href="#">H0998</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0995</a>			<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H1095</a>	

مصیبت بڑی ایک تعلق کا جس اور بے یقینی جو ہوئی ظاہر بات ایک پر دانیال یعنی طَشَّصَّر بیل میں سال تیسرے کے حکومت کی خوردس بادشاہ کے فارس ہوئی۔ حاصل سمجھ کی پیغام اس میں رویا اُسے ہے۔ سے

בְּיָמִים	הָהֵם	אֲנִי	דָּנְיָאֵל	הָיִיתִי	מְחַאֲדָל	שְׁלֹשָׁה	שָׁבָעִים	יָמִים:	2
دنوں-میں	اُن	میں	دانی-ایل	تھا	ماتم-کرنا	تین	ہفتے	دن	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0056</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H3117</a>	

تھا۔ ربا کر ماتم ہفتے پورے تین دانیال میں، میں دنوں اُن

לָחֵם	חֲמֻדוֹת	לֶאֱ	אֲכָלְתִּי	וּבִשָּׂר	יַיִן	לֶאֱ-	בָא	אֶל-	פִּי	וְסוּד	3
روٹی	لذیذ	نہ	کھائی-میں-نے	اور-گوشت	اور-شراب	نہ	آئی	میں	میرے-منہ	اور-تیل	
<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H5480</a>	
לֶאֱ-	סֶכְתִּי	עַד-	מְלֹאֵת	שְׁלֹשָׁה	שָׁבָעִים	יָמִים:	פ				
نہ	ملا-میں-نے	تک	پورے-ہونے	تین	ہفتوں	دنوں	□				
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5480</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H3117</a>					

کیا۔ پرہیز سے تیل خوشبودار ہر نے میں ہفتے پورے تین پہنچی۔ تک ہونٹوں میرے مے یا گوشت نہ کھایا، کھانا عمدہ نے میں نہ

וּבֵינָם	עֶשְׂרִים	וְאַרְבָּעָה	לַחֲדָשׁ	הָרִאשׁוֹן	וְאֲנִי	הָיִיתִי	עַל	יָד	הַנְּהָר	הַנְּדוּל	4
اور-دن-میں	بیس	اور-چوبیس	مہینے-کے	پہلے	اور-میں	تھا	پر	کنارے	دریا	بڑے-کے	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5104</a>		
הוּא	הַדְּבָר:										
یعنی	دجلہ										
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H2313</a>										

تھا۔ کھڑا پر کنارے کے دجلہ دریا بڑے میں دن 42ویں کے مہینے پہلے

וּמְחַנְּו	בָּדִים	לְבוּשׁ	אֶחָד	אִישׁ-	וְהִנֵּה	וְאָרָא	עֵינָי	אֶת-	וְאִשָּׁא	5
اور-اُس-کی-کمر	کتان	پہنا	ایک	آدمی	اور-دیکھو	اور-دیکھا	اپنی-آنکھیں	کو	اور-اُنھائیں	
<a href="#">H4975</a>	<a href="#">H0906</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H7200</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5375</a>	
								אִפְזוֹ:	בְּכֶתֶם	חֲגָרִים
								اُوفاز-کے	سونے-سے	بندھی
								<a href="#">H0210</a>	<a href="#">H3800</a>	<a href="#">H2296</a>

ہے۔ ہوا بندھا پنکا کا سونے خالص میں کمر کی جس بے کھڑا آدمی ملبس سے کتان سامنے میرے کہ ہوں دیکھتا کیا تو اُنھائی نگاہ نے میں

וּדְוִיָּתוֹ	כְּתָרְשִׁישׁ	וּפְנִי	כְּמִרְאָה	בְּרַק	וְעֵינָיו	כְּלִפְיָדִי
اور-اُس-کا-جسم	فیروزے-کی-مانند	اور-اُس-کا-چہرہ	مانند	بجلی-کی	اور-اُس-کی-آنکھیں	مشعلوں-کی-مانند
<a href="#">H1472</a>	<a href="#">H8658</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4758</a>			<a href="#">H3940</a>
אֵשׁ	וּזְעֵתָיו	וּמְרִנְלוֹתָיו	כְּעֵין	נְחֻשֶׁת	קָלָל	וּקְזָל
آگ-کی	اور-اُس-کے-بازو	اور-پاؤں	مانند	پیتل-کی	چمکتی	اور-آواز
<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H4772</a>			<a href="#">H7044</a>	<a href="#">H1697</a>

پاؤں اور بازو کے اُس تھیں۔ مانند کی مشعلوں بھڑکتی آنکھیں کی اُس اور تھا، ربا چمک طرح کی بجلی آسمانی چہرہ کا اُس تھا، جیسا پکھراج جسم کا اُس ہے۔ ربا مچا شور بجوم بڑا کہ تھا ربا لگ یوں وقت بولتے تھے۔ رہے دمک طرح کی پیتل ہوئے کئے پالش

וְרֵאִיתִי	אֲנִי	דְּנִיאל	לְבָדִי	אֶת-	הַמְרִאָה	וְהָאֲנָשִׁים	אֲשֶׁר	הָיוּ	עִמָּי
اور-میں-نے-دیکھا	میں	دانی-ایل	اکیلے	کو	روبا	اور-آدمیوں-نے	جو	تھے	میرے-ساتھ
<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H1961</a>	
לֹא	רָאוּ	אֶת-	הַמְרִאָה	אֲבָל	חֲרָדָה	נִדְלָה	נִפְלָה	עֲלֵיהֶם	וַיִּבְרְחוּ
نہ	دیکھا	کو	روبا	لیکن	دبشت	بڑی	گری	اُن-پر	اور-بھاگے
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0061</a>	<a href="#">H2731</a>	<a href="#">H5307</a>		<a href="#">H1272</a>	<a href="#">H2244</a>

گئے۔ چھپ کر بھاگ وہ کہ ہوئی طاری دبشت اتنی پر اُن اچانک تو بھی دیکھا۔ نہ اُسے نے ساتھیوں میرے دیکھی۔ روبا یہ نہ دانیال میں، صرف

וְאֲנִי	נִשְׁאַרְתִּי	לְבָדִי	וְאֲרָאָה	אֶת-	הַמְרִאָה	הַנִּדְלָה	הַזֹּאת	וְלֹא	נִשְׁאַר-
اور-میں	رہ-گیا	اکیلا	اور-دیکھا-میں-نے	کو	روبا	بڑے	اِس	اور-نہیں	باقی-رہی
<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H7604</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7604</a>
כִּי	כַח	וְהוֹדִי	נְהַפְדִּי	עָלִי	לְמִשְׁחִית	וְלֹא	עֲצָרְתִּי	כַח:	طاقة
میرے-اندر	طاقت	اور-میری-خوبصورتی	بدل-گئی	میرے-اوپر	خرابی-میں	اور-نہ	بچی-میں-نے	طاقت	
		<a href="#">H1935</a>	<a href="#">H2015</a>	<a href="#">H4889</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6113</a>			

ہوا۔ بس میں اور گیا پڑ ماند رنگ کا چہرے میرے رہی۔ جاتی طاقت ساری میری کر دیکھ روبا عظیم یہ لیکن گیا۔ رہ ہی اکیلا میں چنانچہ

וְאֲשַׁמְעֵ	אֶת-	קוֹל	דְּבָרָיו	וּכְשִׁמְעִי	אֶת-	קוֹל	דְּבָרָיו	וְאֲנִי
اور-سنا-میں-نے	کو	آواز	اُس-کے-کلام-کی	اور-جب-سنا-میں-نے	کو	آواز	اُس-کے-کلام-کی	تو-میں
<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0589</a>	
הַיְיִתִּי	נִרְדָּם	עַל-	פְּנֵי	וּפְנֵי	אֶרְצָה:			
تھا	گہری-نیند-میں	پر	منہ-کے-بل	اور-منہ	زمین-کی-طرف			
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7290</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0776</a>			

رہا۔ پڑا پر زمین میں حالت مدبوش کر گر بل کے منہ میں ہی سنتے اُسے لگا۔ بولنے وہ بھر

וְהִנֵּה-	יָד	נִנְעָה	בִּי	וַתִּנְיַעַנִי	עַל-	וּכְפֹת	יָדִי:
اور-دیکھو	ہاتھ	چھو	مجھے	اور-بلا-مجھے	پر	اور-بتھیلیوں	میرے-ہاتھوں-کی
<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H5128</a>		<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H3027</a>

سکا۔ بو بل کے گھٹنوں اور ہاتھوں اپنے میں سے مدد کی اُس بلا۔ کر چھو مجھے نے ہاتھ ایک تب

וַיִּיאָמֶר	אֵלָי	דְּנִיאל	אִישׁ-	חֲמֹדוֹת	הָיוּ	בְּדְבָרַיִם	אֲשֶׁר	אֲנִכִּי	דָּבַר	אֲלֵיךָ
اور-کہا	مجھ-سے	دانی-ایل	انسان	پیارے	سمجھ	باتوں-کو	جو	میں	بولتا-ہوں	تجھ-سے
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1840</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>	
וַעֲמֹד	עַל-	עֲמֹדָךְ	כִּי	עֲתָה	שְׁלַחְתִּי	אֵלֶיךָ	וּבְדַבְרֶךָ	עִמָּי	אֶת-	
اور-کھڑا-ہو	پر	اپنی-جگہ	کیونکہ	اب	بھیجا-گیا-ہوں-میں	تیرے-پاس	اور-جب-بولا	میرے-ساتھ	کو	
<a href="#">H5975</a>		<a href="#">H5975</a>		<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0853</a>		

הַדְּבָר	הַזֶּה	עֲמֹדָתִי	מִרְעִיד:
کلام	یہ	کھڑا-ہوا-میں	کانٹتا-ہوا
<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H7460</a>

ہی تیرے مجھے وقت اِس کیونکہ جا، ہو کھڑا کر۔ غور پر اُن گا کروں سے تجھ میں باتیں جو ہے! قدر گراں بہت نزدیک کے اللہ تُو دانیال، اے بولا، آدمی وہ گیا۔ بو کھڑا ہوئے تھرتھراتے میں تب ہے۔ گیا بھیجا پاس

12	וַיֹּאמֶר	אָלַי	אֶל-	הִירָא	דָּנִי-אֵיל	וְכִי	מִן-	הַיּוֹם	הָרִאשׁוֹן	אֲשֶׁר	נָתַתְּ	אֶת-
	اور-کہا	مجھ-سے	نہ	ڈر	دانی-ایل	کیونکہ	سے	دن	پہلے	جب	دیا-تو-نے	کو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H1840</a>			<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7223</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>

	לְבָבִי	לְהָבִין	וְלַהֲתַעֲנוֹת	לְפָנַי	אֱלֹהֶיךָ	נִשְׁמָעוּ	דְּבַרְיֶךָ	וְאָנֹכִי	בְּאָזְנוֹ
	اپنے-دل	سمجھنے-کے-لیے	اور-عاجزی-کرنے-کے-لیے	سامنے	اپنے-خدا-کے	سننے-گئے	تیرے-کلام	اور-میں	آیا-ہوں
	<a href="#">H0995</a>			<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H0935</a>

### דְּבַרְיֶךָ:

تیرے-کلام-کے-سبب  
[H1697](#)

دن اسی ہے، رکھا کر ارادہ پورا کا جھکنے سامنے کے خدا اپنے اور کرنے حاصل سمجھ نے تو سے جب ڈرنا! مت دانیاں، [ ] اے رکھی، جاری بات اپنی نے اُس ہوں۔ گیا آ میں جواب کے دعاؤں تیری میں ہے۔ گئی سنی تیری سے

13	וַיֹּשֶׁר	מַלְכוּת	פָּרֶס	עֲמֹד	לְיָגֵדִי	עֲשָׂרִים	וְאַחַד	יּוֹם	וְהִנֵּה	מִיכָאֵל	אֶחָד
	اور-سردار	سلطنت	فارس-کے	کھڑا-تھا	میرے-خلاف	اکیس	اور-ایک	دن	اور-دیکھو	میکائیل	ایک
	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H6539</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H4317</a>	<a href="#">H0259</a>

	הַשָּׂרִים	הָרִאשִׁים	בָּא	לְעֹזְרָנִי	וְאָנֹכִי	נֹתְרָנִי	שָׁם	אֶצֶל	מַלְכֵי	פָּרֶס:
	سرداروں-میں-سے	پہلے	آیا	مدد-کرنے-میری	اور-میں	رہا	وہاں	پاس	بادشاہوں	فارس-کے
	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5826</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3498</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H0681</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H6539</a>

اور آیا، کرنے مدد میری ہے ایک سے میں فرشتوں سردار کے اللہ جو میکائیل پھر رہا۔ کھڑا میں راستے میرے تک دن 21 سردار کا بادشاہی فارسی لیکن گئی۔ چھوٹ سے لڑنے ساتھ کے سردار اُس کے بادشاہی فارسی جان میری

14	וּבְאֹזְנוֹ	לְהַבִּינֵךָ	אֶת-	אֲשֶׁר-	יִקְרָה	לְעַמֶּךָ	בְּאַחֲרִית	הַיָּמִים	כִּי-
	اور-آیا-ہوں-میں	سمجھانے-کے-لیے-تجھے	کو	جو	ہو-گا	تیری-قوم-کو	آخر-میں	دنوں-کے	کیونکہ
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H0853</a>				<a href="#">H0319</a>	<a href="#">H3117</a>	

عֹזְרוֹ  
ابھی  
רוیا  
دنوں-کے-لیے  
[H5750](#)  
[H2377](#)  
[H3117](#)

ہے۔ [ ] سے وقت والے آنے تعلق کا رویا کیونکہ گا۔ ائے پیش کو قوم تیری میں دنوں آخری جو ہوں آیا کو سنانے کچھ وہ تجھے میں

15	וּבְדַבְרֶךָ	עִמִּי	כְּדַבְרִים	הָאֵלֹהִים	נִחֲתִי	פָּנַי	אֶרְצָה	וְנִאֲלַמְתִּי:
	اور-جب-بولا	میرے-ساتھ	باتوں-کے-مطابق	ان	جھکایا-میں-نے	منہ	زمین-کی-طرف	اور-خاموش-رہا
	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0481</a>

رہا۔ دیکھتا طرف کی زمین نیچے سے خاموشی میں تو تھا رہا کر باتیں یہ ساتھ میرے وہ جب

16	וְהִנֵּה	כְּדַמוֹת	בְּנֵי	אָדָם	נִנְעִי	עַל-	שִׁפְתָי	וְאַפְתָּח-	פִּי	וְאֶדְבַּרְהָ
	اور-دیکھو	شکل-میں	بنی	آدم-کی	چھوا	کو	میرے-ہونٹوں	اور-کھولا-میں-نے	منہ	اور-بولا-میں
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H1823</a>		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H8193</a>		<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H1696</a>

	וְאֶמְרָהּ	אֶל-	הַעַמֹּד	לְיָגֵדִי	אֲדָנִי	בְּמִרְאָה	נְהַפְכוּ	צִירָי	עֲלָי
	اور-کہا-میں-نے	سے	کھڑے-ہوئے	میرے-سامنے	میرے-خداوند	رویا-سے	بدل-گئیں	دردیں-میری	میرے-اوپر
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H0113</a>		<a href="#">H2015</a>		

וְלֹא  
اور-نہیں  
بچی-میں-نے  
طَاقַת  
[H6113](#)  
[H3808](#)

یہ آقا، میرے [ ] اے کہا، سے فرشتے کھڑے سامنے اپنے نے میں لگا۔ بولنے کر کھول منہ میں اور دیا، چھو کو ہونٹوں میرے نے اُس تھا رہا لگ سا آدمی جو پھر ہے۔ رہی جاتی طاقت میری ہوں۔ لگا کھانے تاب و پیچ طرح کی عورت مبتلا میں زہ درد میں کر دیکھ رویا

17	וְהִיָּךְ	יִזְכַּל	עֶבֶד	אֲדֹנָי	זֶה	לְדַבֵּר	עִם-	אֲדֹנָי	זֶה	וְאֲנִי	מֵעַתָּה
	اور-کیسے	سکے-گا	بندہ	میرے-خداوند-کا	یہ	بولنا	ساتھ	میرے-خداوند	اس	اور-میں	اب-سے
	H1963	H3201	H5650	H0113	H2088	H1696		H0113	H2088	H0589	H6258

لَا-	يَعْمَد-	כִּי	וְנִשְׁמָה	לֹא	נִשְׁאַרְהָ-	כִּי:
نہیں	قائم-ربی	میرے-اندر	اور-سانس	نہیں	بچی	میرے-اندر
H3808	H5975		H5397	H3808	H7604	

ہے۔ کیا ہو مشکل بھی لینا سانس ہے، گئی دے جواب تو طاقت میری ہے؟ سکتا کر بات سے آپ طرح کس خادم کا آپ آقا، میرے اے

18	וַיִּסַּף	וַיִּנְעַ-	כִּי	כְּמִרְאֵה	אָדָם	וַיַּחֲזִקֵנִי:
اور-پھر	اور-چھو	مجھے	شکل-میں	انسان-کی	اور-مضبوط-کیا-مجھے	
H3254	H5060		H4758	H0120	H2388	

دی تقویت کر چھو پھر بار ایک مجھے نے اُس تھا ربا لگ سا آدمی جو

19	וַיֵּאמֶר	אֶל-	הַיְיָ	אִישׁ-	חַמְדוֹת	שְׁלוֹם	לְךָ	חֲזַק	וְחֲזַק	וְדַבְּרִי	עִמִּי
اور-کہا	نہ	ڈر	انسان	پیارے	سلامتی	تجھے	مضبوط-ہو	مضبوط-ہو	اور-مضبوط-ہو	اور-جب-بولا	میرے-ساتھ
H0559	H0408	H3372	H0376		H7965		H2388	H2388	H2388	H1696	

הַתְּחַזְּקֵנִי	וְאָמַרְהָ	יְדַבֵּר	אֲדֹנָי	כִּי	חֲזַקְתִּנִּי:
مضبوط-ہوا-میں	اور-کہا-میں-نے	بولے	میرے-خداوند	کیونکہ	مضبوط-کیا-تو-نے-مجھے
H2388	H0559	H1696	H0113		H2388

مجھے کی بات سے مجھ نے اُس ہی جوں جا! ہو مضبوط رکھ، حوصلہ ہو۔ سلامتی تیری ڈرنا! مت ہے، قدر گراں میں نظر کی اللہ جو ٹو اے بولا، اور ہے۔ دی تقویت مجھے نے آپ کیونکہ کریں، بات آقا میرے اے بولا، میں اور ملی، تقویت

20	וַיֵּאמֶר	הַיְיָ	לְמַדָּה-	בְּאֵתִי	אֲלֵיךָ	וְעַתָּה	אֲשׁוּב	לְהִלָּחֵם	עִם-	שָׂר
اور-کہا	کیا-جانتا-ہے-ٹو	کیوں	آیا-ہوں-میں	تیرے-پاس	اور-اب	لوٹوں-گا-میں	لڑنے-کے-لیے	ساتھ	سردار	
H0559	H3045	H4100	H0935	H0413	H6258	H7725				H8269

פָּרַס	וְאֲנִי	יֹזְבָב	וְהִנֵּה	שָׂר-	יָוֵן	בָּא:
فارس-کے	اور-میں	جاتا-ہوں	اور-دیکھو	سردار	یونان-کا	آتا-ہے
H6539	H0589	H3318	H2009	H8269	H3120	H0935

آئے سردار کا یونان بعد کے نپٹنے سے اُس اور گا۔ جاؤں چلا لڑنے سے سردار کے فارس دوبارہ میں ہی جلد ہے؟ جانتا مقصد کا آنے میرے ٹو کیا کہا، نے اُس گا۔

21	אֲבָל	אֲנִיד	לְךָ	אֶת-	הַרְשָׁוִים	בְּכֶתֶב	אֲמַת	וְאִין	אֲחֹד	מִתְחַזֵּק
لیکن	بتاؤں-گا-میں	تجھے	کو	لکھی-ہوئی	کتاب-میں	سچائی-کی	اور-نہیں	کوئی	مضبوط-کرنے-والا	
H0061	H5046		H0853	H7559	H3791	H0571	H0369	H0259	H2388	

עִמִּי	עַל-	אֶלְהָ	כִּי	אִם-	מִיכָאֵל	שָׂרְכֶם:	פ
میرے-ساتھ	خلاف	ان	سوائے	سوائے	میکائیل	تمہارے-سردار	
		H0428			H4317	H8269	

سوائے کرتا نہیں کوئی مدد میری میں لڑنے سے سرداروں ان ہے۔ لکھا میں کتاب کی سچائی جو ہوں کرتا بیان کچھ وہ سامنے تیرے میں پہلے لیکن کے۔ میکائیل فرشتے سردار تمہارے